

تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیٹر آفس

جامعہ ملیہ اسلامیہ

نئی دہلی

18 دسمبر 2020

پریس ریلیز

ڈی ایس ایس کی جانب سے آن لائن ٹیچنگ ٹریننگ پروگرام کا آغاز
پروفیسر نجمہ اختر صدر ، ڈی ای ایس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سی آئی ٹی میں کیا پروگرام کا افتتاح

دہلی ایجوکیشن سوسائٹی کی صدر پروفیسر نجمہ اختر نے آن لائن ٹیچنگ ٹریننگ کی ضرورت کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے آج جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ایف ٹی کے - سی آئی ٹی میں سوسائٹی کے ماتحت آنے والے تینوں اسکولوں ، اینگلو عربک سینٹر سکینڈری اسکول ، شفیق میموریل سینٹر سکینڈری اسکول اور اینگلو عربک ماڈل اسکول کے اساتذہ کے لئے آن لائن ٹیچنگ ٹریننگ پروگرام کا باضابطہ افتتاح کیا ۔

اس افتتاحی پروگرام کی نظامت اینگلو عربک سینٹر سکینڈری اسکول کے مینیجر پروفیسر محمد مسلم خان نے کی ۔ دہلی ایجوکیشن سوسائٹی کے سکریٹری اور اینگلو عربک ماڈل اسکول کے مینیجر پروفیسر احرار حسین نے پروگرام کا تعارف پیش کیا ، جبکہ شفیق میموریل سینٹر سکینڈری اسکول کے مینیجر ڈاکٹر عبد النصیب خان نے کلمات تشکر ادا کئے ۔

اس موقع پر نور الاسلام ، ایف ٹی کے - سی آئی ٹی کے کوآرڈینیٹر ، ڈاکٹر ایس کے نقوی ، ڈاکٹر ایس این رضوی ، اینگلو عربک ، سینٹر سکینڈری اسکول کے پرنسپل وسیم احمد ، شفیق میموریل سینٹر سکینڈری اسکول کے پرنسپل ڈاکٹر زاہد خان ، اینگلو عربک ماڈل اسکول کی پرنسپل فرح ساجد اور تینوں اسکولوں سے آج کے ٹریننگ پروگرام کے شریک اساتذہ موجود تھے ۔

واضح رہے کہ صدر سوسائٹی پروفیسر نجمہ اختر کی ہدایات کے مطابق 17 دسمبر سے 24 دسمبر تک چلنے والے آن لائن ٹیچنگ ٹریننگ پروگرام کی ترتیب میں پہلے گروپ میں 17-18 دسمبر کو سائنس اور ریاضی کے تینوں اسکولوں کے اساتذہ شریک رہیں گے جبکہ آرٹس ، زبان و ادب اور سوشل سائنس کے اساتذہ کے ٹیچنگ تربیتی پروگرام کے لئے بھی الگ الگ گروپ ترتیب دئے گئے ہیں ۔

24 دسمبر تک چلنے والے اس تربیتی پروگرام کا واحد مقصد ہے طلباء و طالبات جو اسکولوں میں آکر باضابطہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں ان کو آن لائن ٹیچنگ کی تربیت حاصل کرنے کے بعد اساتذہ گوگل میٹ ، زوم ، اسکائپ وغیرہ کے مختلف آن لائن محفوظ ذرائع سے گھر بیٹھے تعلیم دی جا سکے اور امتحانات میں کامیابی کے ساتھ ان کے مستقبل کو روشن بنایا جا سکے ۔

پروفیسر نجمہ اختر کی اس مثبت اور کارگر پہل کے لئے دہلی ایجوکیشن سوسائٹی ، تینوں اسکولوں کی انتظامیہ اور اساتذہ و دیگر ممبران و کارکنان نے ان کا شکریہ ادا کیا ۔

احمد عظیم
پی ار او-میڈیا کوآرڈینیٹر